

## ہنگامی 1-1-9 پولیس غیر ہنگامی

713-884-3131

عمومی معلومات کے لیے، اپنے مقامی پولیس اسٹیشن سے رابطہ کریں (نمبر ذیل میں فراہم کیا گیا ہے)

یا

پبلک افیئرز سے اس نمبر پر رابطہ کریں  
713-308-3200

مزید معلومات کے لئے، ملاحظہ کریں

[www.houstonpolice.org](http://www.houstonpolice.org)

ہیوسٹن کے پولیس اسٹیشنز

281-230-6800

713-845-6800

713-247-4400

281-218-3800

713-928-4600

281-913-4500

832-394-1200

281-405-5300

713-635-0200

713-744-0900

832-394-0200

832-394-4700

713-731-5000

713-314-3900

832-394-0000

281-584-4700

ایر پورٹ - بش

ایر پورٹ - ہابی

سنٹرل

کلیئر لیک

ایسٹ سائڈ

کنگ ووڈ

مڈ ویسٹ

شمال

شمال مشرق

شمال مغرب

جنوبی سنٹرل

جنوبی جیسٹر

جنوب مشرق

جنوب مغرب

اسپیشل اوپس

ویسٹ سائڈ

ہیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ ہیوسٹن کے شہریوں کے لیے "فعال شوٹر والے واقعات میں جان بچانا" نامی پیشکش دستیاب کروا رہی ہے جس میں بھاگنے، چھپنے، لڑنے کے اصول شامل ہیں۔

فعال شوٹر والی پیشکش لگ بھگ 1.5 گھنٹے کی طوالت والی ہے اور اس میں متعدد ویڈیوز شامل ہیں۔ یہ ہائی اسکول اور اس سے زیادہ کے سبھی عمر والوں کے لیے مناسب ہے۔ اس پیشکش کا انتظام بغیر کسی معاوضہ کے درج ذیل سے رابطہ کر کے کیا جاسکتا ہے:

اسٹیفن ڈینیئل

سینیئر کمیونٹی لائزن پبلک افیئرز

ہیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ

713-308-3246

[Stephen.Daniel@Houstonpolice.org](mailto:Stephen.Daniel@Houstonpolice.org)



فعال شوٹر والے  
واقعات میں جان  
بچانا

بھاگنا، چھپنا، لڑنا



ہیوسٹن کو

محفوظ

رکھیے



ایک ایسے دور میں جب بے حسی کے ساتھ قتل کے واقعات عام سے کہیں زیادہ ہوں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ "اگر آپ کسی فعال شوٹر والے واقعے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے؟"

آپ فعال شوٹر کے خلاف اپنا تحفظ کیسے کریں گے؟

بھاگنا — چھپنا — لڑنا

بھاگنا

◆ بھاگنے کا ایک راستہ اور منصوبہ ذہن میں رکھیں اپنا سامان پیچھے چھوڑ دیں

◆ اس بات سے قطع نظر وہاں سے نکل جائیں کہ آیا دوسرے لوگ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں

◆ اگر ممکن ہو تو، دوسروں کو بھاگنے میں مدد کریں

◆ زخمی لوگوں کو ہٹانے کی کوشش نہ کریں، دوسروں کو اس علاقے میں داخل ہونے سے روکیں

◆ جہاں فعال شوٹر والا معاملہ ہو وہاں اپنے ہاتھ سامنے رکھیں

◆ جب آپ محفوظ ہوں تو 911 پر کال کریں

چھپنا

◆ شوٹر کی نظر سے ہٹ کر کسی جگہ پر چھپ جائیں دروازے بند کر لیں یا اپنے چھپنے کی جگہ پر داخل ہونے والے راستے کو مسدود کر دیں

◆ اپنے سیل فون کو خاموش کر دیں (بشمول وائبریٹ موڈ) اور خاموش رہیں

لڑنا

◆ لڑنا آخری راستہ ہے اور ایسا صرف اس وقت کریں جب آپ کی زندگی کو فوری خطرہ ہو

◆ شوٹر کو ناکارہ بنانے کی کوشش کریں اپنا بھرپور عمل کریں... آپ کی زندگی کا انحصار اسی پر ہے

لاء انفورسمنٹ کے پہنچنے پر:

◆ بدستور پرسکون رہیں اور ہدایات پر عمل کریں

◆ اپنے ہاتھ میں موجود کسی آئٹمز کو نیچے رکھ دیں (جیسے بیگز، جیکٹس)

◆ ہاتھ اٹھا لیں اور انگلیوں کو پھیلا دیں ہاتھوں کو ہمہ وقت مرئی رکھیں

◆ افسران کی جانب فوری حرکت کرنے سے گریز کریں جیسے کہ تحفظ کے لیے انہیں پکڑنا

◆ اشارہ کرنے، چیخنے یا چلانے سے گریز کریں

◆ انخلاء کے وقت افسران کو مدد یا سمت پوچھنے کے لیے نہ روکیں

911 کے آپریٹرز کو فراہم کرنے والی معلومات:

◆ فعال شوٹر کا مقام شوٹرز کی تعداد

◆ شوٹرز کی جسمانی تفصیل

◆ شوٹرز کے قبضے میں موجود ہتھیاروں کے نمبر اور قسم

◆ اس مقام پر موجود امکانی متاثرین کی تعداد

اضافی تحفظ سے متعلق ہدایات:

موقع پر پہنچنے والے پہلے افسران زخمی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے نہیں رکبیں گے۔ شروع میں آنے والے افسران کے پیچھے ریسکیو (راحت رسانی) ٹیموں کی آمد کی توقع رکھیں ریسکیو ٹیمیں زخمی لوگوں کا علاج کریں گی اور انہیں وہاں سے لے جائیں گی

جب آپ کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں تو، اس بات کا امکان ہے کہ لاء انفورسمنٹ کے ذریعہ آپ کو اس وقت تک اسی علاقے میں روکے رکھا جائے جب تک صورتحال قابو میں نہ آجائے، اور سبھی گواہوں کی شناخت ہو جائے اور ان سے سوالات کر لیے جائیں۔ اس وقت تک اس علاقے سے نہ جائیں جب تک لاء انفورسمنٹ اتھارٹیز نے آپ کو ایسا کرنے کے لیے نہ کہا ہو۔